



حکومتِ اونٹاریو نے گھر میں قیام کرنے کے حکم نامے اور صحت عامہ کے اقدامات کے نفاذ کے عمل کو مزید سخت بنا دیا ہے

برامپٹن، آن (16 اپریل 2021) – حکومتِ اونٹاریو نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ نئی سفری پابندیاں عائد کر کے اور صحت عامہ کے اقدامات میں اضافہ کر کے گھر میں قیام کرنے کے صوبائی حکم کے نفاذ کو مزید سخت بنا رہی ہے۔

نفاذ

گھر میں قیام کے حکم پر عمل درآمد میں اضافے اور کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، ایک ہنگامی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت پولیس افسران اور جرائم سے نمٹنے پر مامور دیگر صوبائی افسران کو اونٹاریو کے گھر میں قیام کے حکم کے نفاذ کے لیے زیادہ اختیارات ملیں گے۔

بروز ہفتہ، بتاریخ 17 اپریل 2021 کو رات 12:01 سے مؤثر ہونے کے بعد، پولیس افسران اور جرائم سے نمٹنے والے دیگر صوبائی افسران کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی شخص سے اس کا پتہ پوچھیں اور رہائش گاہ پر نہ ہونے کی وجہ دریافت کریں۔ اس کے علاوہ پولیس افسران، خصوصی کانسٹیبلز اور فرسٹ نیشن کانسٹیبلز کو یہ اختیار حاصل ہو گا کہ وہ گاڑیاں روک کر کسی بھی شخص سے گھر سے نکلنے کی وجہ دریافت کر سکیں۔ نفاذ کا یہ اضافی اختیار صرف گھر میں قیام کرنے کے حکم کے دوران اور خصوصی طور پر گھر میں قیام کرنے کے حکم کے نفاذ کے لیے مؤثر ہو گا۔

صحت عامہ کے اقدامات کی تقویت

کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی صورتحال کے صوبائی اعلان اور گھر میں قیام کے حکم میں مزید دو ہفتوں کے لیے توسیع کردی گئی ہے۔ گھر پر رہنے کے حکم نامے کے مطابق ہر شخص کو گھر پر ہی ٹھہرنا پڑے گا ماسوائے انتہائی ضروری معاملات کے لیے مثلاً گروسری اسٹور یا فارمیسی پر جانا، نگہداشت صحت کی سروسز تک رسائی، ورزش کے لیے گھر سے باہر نکلنا یا دیگر کسی انتہائی ضروری کام کے لیے باہر جانے کی اجازت ہو گی۔

حکومتِ صحت عامہ اور کام کی جگہ کے درج ذیل حفاظتی اقدامات لاگو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو بروز ہفتہ، مورخہ 17 اپریل، 2021 کو رات 12:01 سے مؤثر ہوں گے:

- ایک ہی گھرانے کے افراد یا اس گھر سے باہر کا کوئی ایسا شخص جو گھر میں تنہا رہتا ہو یا گھر کے کسی رکن کی دیکھ بھال کرنے والے کے علاوہ دیگر تمام بیرونی میل جول اور عوامی اجتماعات پر پابندی ہو گی؛
- تعمیراتی شعبے میں غیر ضروری کام کی تمام جگہیں بند رہیں گی؛
- وہ تمام خوردہ نرتیبات جہاں اسٹور میں خریداری کی اجازت ہے، اپنی گنجائش کی حد کو 25 فیصد تک کم کریں گی۔ اس میں سپر مارکیٹیں، گروسری اسٹورز، کنوینیننس سٹورز، انڈور فارمر مارکیٹس اور دیگر اسٹورز شامل ہیں جو بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات بیچتے ہیں؛ اور
- آؤٹ ڈور تفریحی کورٹس اور کھیلوں کے میدان جیسے گالف کورسز، باسکٹ بال کورٹس اور فٹ بال کے میدانوں کو محدود استثناء کے ساتھ بند رکھا جائے گا۔



اس کے علاوہ بروز پیر مورخہ 19 اپریل 2021 کو رات 12:01 بجے سے صوبہ، شادی، تہیز و تکفین اور مذہبی خدمات، رسومات یا تقریبات کی گنجائش کی حد کو گھر کے اندر یا باہر میں 10 افراد تک محدود کیا جا رہا ہے۔ ان خدمات سے منسلک اجتماعات مثلاً استقبالیہ کی ممانعت ہے، ماسوائے اسی گھر کے افراد یا اس گھر سے باہر کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ جو اکیلا رہتا ہو۔ ڈرائیو ان سروسز کی اجازت ہو گی۔

غیر ضروری اشیاء کے پرچون فروخت کاروں کے لیے صحت عامہ اور جائے کار کے حوالے سے دیگر تمام حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد بمطابق [بر اوپنس ایمر جینسی بریک](#) (صرف کرب سائیڈ پک اور صرف ڈیلیوری) بدستور جاری رہے گا۔

مزید [یہاں](#) پڑھیں۔

سٹی کی سروسز اور سہولیات

سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں

سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں بالمشافہ سروسز کے لیے صرف بذریعہ اپوائنٹمنٹ کھلی رہیں گی۔ بغیر اپوائنٹمنٹ جانے کی اجازت نہیں ہو گی۔ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے، ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/skiptheline

سٹی کے تفریحی مراکز اور آؤٹ ڈور سہولت گاہیں

سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریحی سہولت گاہیں اور آؤٹ ڈور مقامات عوام کے لیے بدستور بند رہیں گے اور ان ڈور پروگرام بھی تاحکم ثانی بند رہیں گے۔

تمام آؤٹ ڈور تفریحی کورٹس اور کھیلوں کے میدان جیسے گالف کورسز، باسکٹ بال کورٹس اور فٹ بال کے میدانوں کو محدود استثناء کے ساتھ بند رکھا جائے گا۔ کھیل کے میدان کھلے رہیں گے۔

پارکس اور پکنڈیاں کھلی رہیں گی۔ پارکس کے اندر موجود واش روم کی سہولیات بند رہیں گی۔

ورچوئل پروگرامز

ورچوئل فٹنیس

رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تربیت یافتہ انسٹرکٹرز کی زیر نگرانی چلنے والی 30 منٹ کی مفت ورچوئل فٹنیس کلاسوں میں شرکت کریں۔

+55 ورکشاپس

برامپٹن کے ایسے رہائشی جن کی عمر 55 سال یا اس سے زیادہ ہو، وہ مفت ورچوئل ورکشاپس کے لیے رجسٹر ہو سکتے ہیں اور اپنے گھر کے پرسکون ماحول سے دلکش آن لائن نشستوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ شرکاء کو ایک محفوظ اور منظم ماحول میں سماجی میل جول بڑھانے، نئی دوستیاں بنانے اور آن لائن روابط قائم کرنے کا موقع ملے گا۔

مشمول ورچوئل سرگرمیاں اور ورکشاپس

یہ سلسلہ معذوریوں اور استثنائی حالات کے حامل شرکاء کے لیے دلچسپ سرگرمیوں میں شامل ہونے، کچھ نیا سیکھنے اور اپنے ہم عمر افراد کے ساتھ دیرپا دوستی پیدا کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔

ورچوئل پروگراموں کی پیشکشوں، بشمول رجسٹر ہونے کے طریقے کی تفصیلات کے بارے میں مزید معلومات www.brampton.ca/recreation سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

گھر پر تفریح



آن لائن آرٹس اور کرافٹس ٹیوٹوریلز کے ذریعے گھر پر رہتے ہوئے بھی فعال اور وابستہ رہیں، رسائی 24/7 دستیاب ہے! اور یگیمی پرنٹس بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کریں اور مزید بہت کچھ گھر میں رہتے ہوئے وسیع اقسام کی سرگرمیوں تک رسائی یہاں سے حاصل کریں، جو برامپٹن ریکریٹیشن نے بہت محبت سے تیار کی ہیں۔

مینڈیٹری فیس کورنگز

مینڈیٹری فیس کورنگز بانی لاء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک یا چہرہ ڈھانپنے کی دوسری چیزوں کا استعمال لازمی ہے۔ عوامی اداروں اور کاروباروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے زیر کنٹرول اندرونی عوامی مقامات میں ماسک یا چہرہ ڈھانپنے کی دوسری اشیاء کے استعمال کو یقینی بنائیں۔

ضمنی قانون میں کچھ افراد کو استثنیٰ بھی حاصل ہے، بشمول وہ لوگ جو طبی وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کے لیے دیگر کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے ہیں؛ دو سال سے کم عمر بچے؛ ہنگامی احکامات کے تحت سانس پھولنے والی سرگرمیوں میں مصروف افراد۔ مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/masks

رہائشی اور کاروباری ادارے 311 پر کال کر سکتے ہیں، ملاحظہ کریں www.311brampton.ca یا مزید معلومات اور سروس کی گزارشات کے لیے 311 موبائل ایپ استعمال کریں۔

لنکس

مزید جانیں:

- [سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 پروگرامنگ اور سروس اپ ڈیٹس](#)
- [سٹی آف برامپٹن - کیا بند کر دیا گیا ہے اور کیا کھلا ہے](#)
- [کووڈ-19 کی علامات](#)
- [کووڈ-19 کی ویکسین](#)
- [برامپٹن میں ٹیسٹنگ کی سہولت](#)
- [خود کو آئسولیٹ کیسے کریں](#)
- [کووڈ-19 کے دوران کاروباری اداروں اور کام کی جگہوں کو کیسے محفوظ رکھیں](#)
- [بیل میں کووڈ-19 کے کیسز](#)

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca